



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

May 27, 2025

SECP Concludes Day 2 of Mutual Fund Focus Group 2025 with Actionable Insights

Islamabad – May 27, 2025 – The second and final day of the Securities and Exchange Commission of Pakistan's (SECP) 2025 Mutual Fund Focus Group Session, themed "Mutual Funds as Catalysts for Financial Inclusion and Economic Growth," concluded on May 27 in Karachi. Building on the momentum of the first day's discussions, the session engaged a new set of industry participants.

SECP Commissioner Mr. Muzaffar Ahmed Mirza opened the day with a welcome address, setting the tone for interactive presentations and expert-led discussions on innovation, regulatory evolution, and the future of mutual funds in Pakistan.

Structured into eight thematic sessions over two days, the focus group provided a platform for candid dialogue on regulatory challenges, innovation priorities, digital transformation, governance practices, and investor inclusion. Discussions highlighted domestic policy gaps while benchmarking against international best practices, with comparative insights from global mutual fund markets.

In his closing remarks, Mr. Zeeshan Rehman Khattak, Commissioner SECP, stated:

"This session was never intended to be a symbolic gathering. It was designed as a platform for active engagement—a space for ideas, insights, and constructive criticism to flow freely. I am pleased to say it has delivered."

He emphasized that participant feedback would directly inform SECP's reform agenda, reaffirming the Commission's commitment to sustained, meaningful collaboration with stakeholders.

The insights and recommendations from the two-day session will integrate into SECP's regulatory development process, guiding future policies to cultivate a more inclusive, transparent, and investor-friendly mutual fund ecosystem in Pakistan.

ایس ای سی پی نے میوچول فنڈ فوکس گروپ 2025 کے دوسرے دن کا اختتام اہم نکات کے ساتھ کیا۔

اسلام آباد، 27 مئی: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام "میوچول فنڈز: مالی شمولیت اور معاشی ترقی کے لیے اہم" کے عنوان سے میوچول فنڈ فوکس گروپ 2025 کا دوسرا اور آخری دن 27 مئی کو کراچی میں اختتام پذیر ہوا۔ اس دن نئی صنعت سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اور پہلے دن کی بات چیت کو آگے بڑھایا۔

SECP کے کمشنر جناب مظفر احمد مرزا نے دن کا آغاز خوش آمدیدی خطاب سے کیا، جس کے بعد ماہرین کی رہنمائی میں پیشکشیں اور گفتگو ہوئیں۔ ان سیشنز میں میوچول فنڈز میں جدت، قوانین میں تبدیلی اور مستقبل کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔

یہ فوکس گروپ دو دنوں میں آٹھ مختلف موضوعات پر مشتمل سیشنز پر مشتمل تھا۔ اس میں کھل کر بات چیت کا موقع ملا، جہاں ریگولیٹری مسائل، جدت، ڈیجیٹل تبدیلی، اچھی حکمرانی اور سرمایہ کاروں کی شمولیت جیسے اہم موضوعات پر بات ہوئی۔ گفتگو کے دوران پاکستان کی پالیسیوں میں موجود کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی اور دنیا کے دیگر ملکوں کی میوچول فنڈ مارکیٹس کی مثالیں دے کر بہتر طریقے سامنے لائے گئے۔

اپنے اختتامی کلمات میں ایس ای سی پی کے کمشنر جناب ذیشان رحمان خٹک نے کہا:

یہ سیشن صرف ایک رسمی اجلاس نہیں تھا، بلکہ اسے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا گیا " تھا جہاں خیالات، تجاویز اور مثبت تنقید کا تبادلہ کھلے دل سے کیا جاسکے۔ خوشی انہوں نے زور دیا کہ شرکاء کی آراء کو ایس "ہے کہ ہم اس مقصد میں کامیاب رہے۔ ای سی پی کی اصلاحات کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا، اور اس بات کا اعادہ کیا کہ کمیشن تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل اور بامقصد رابطے کے لیے پُر عزم ہے۔

دو روزہ سیشن سے حاصل ہونے والی تجاویز اور نکات کو ایس ای سی پی کے ریگولیٹری ترقی کے عمل میں شامل کیا جائے گا، تاکہ مستقبل کی ایسی پالیسیاں بنائی جاسکیں جو پاکستان میں میوچول فنڈز کے نظام کو زیادہ جامع، شفاف اور سرمایہ کار دوست بنائیں۔